

ROOTWORDS OF SURAH AL IMRAN 111-120

يَضُرُّوْكُمْ	أَذَى	يُوَلُّوْكُمْ	الْأَدْبَارَ	تُقِفُّوْا
ض ر ر + ضمير	أذ ي	و ل ي + ضمير	د ب ر	ث ق ف + مجهول
وہ نقصان دیں گے + تم کو	افیت	وہ پھیر دیں گے + تم سے	پیٹھیں	وہ پائے گئے
Will they harm you	A hurt	They will turn towards you	The backs	They are found

حَبْلٍ	بَاءٌ-و	عَصَ-وَأُ	يَعْتَدُونَ	عَانَاءَ
ح ب ل	ب و أ - جمع	ع ص ي - جمع	ع د و - جمع	أ ن ي
رسی کے	وہ لوٹے	انہوں نے نافرمانی کی	حد سے بڑھ جاتے	گھڑیوں میں
A rope	They incurred	They disobeyed	Transgress	In the hours

يُسْرِعُونَ	تُغْنِي	رِيحٍ	صِرٌّ	حَرَثَ
س ر ع - جمع	غ ن ي	ر و ح	ص ر ر	ح ر ث
وہ جلدی کرتے ہیں	کام آئیں گے	ہوا	پالا ہے	کھیتی کو
They hasten	Will avail	A wind	Frost	The harvest

عَنْتُمْ	وَدُّوْا	خَبَالًا	يَأْلُونَ+كُمْ	بِطَانَةً
ع ن ت + ضمير	و د د - جمع	خ ب ل	ا ل و + ضمير مفعول	ب ط ن
مشکل میں پڑو + تم	وہ دل سے چاہتے ہیں	کسی خرابی کی	وہ کمی کریں گے + تم سے	دلی دوست
distresses you	They wish	Any ruin	they will spare you	Intimates

تَسُوْا+هُمْ	الْغَيْظِ	الْأَنَامِلَ	عَضُّوْا	بَدَتْ
س و ا + ضمير	غ ي ظ	ن م ل	ع ض ض	ب د و فعل ماض
بری لگتی ہے + ان کو	غصے	انگلیاں	کاٹتے ہیں وہ	ظاہر ہو گئی
It grieves them	The rage	The finger tips	They bite	(has become) apparent